

Basé sur le plan de protection pour les communautés musulmanes de Suisse pour la reprise des célébrations religieuses

PLAN DE PROTECTION POUR LES VISITEURS DES MOSQUÉES

MASAT MBROJTÉSE PËR XHEMATLINJË - CAMİ CEMAATI İÇİN KORUNMA TEDBİRLERİ - MJERE PREDOSTROŽNOSTI
إجراءات الحماية لرواد المسجد

Admission uniquement avec enregistrement (données conservées pendant 2 semaines selon l'OFSP)

ALB
BOS
TUR
عربي

HYRJA NË XHAMİ VETËM PAS REGJISTRIMIT (Me udhëzim të DFSH (BAG), të dhënat ruhen dy javë)
ULAZ SAMO UZ REGISTRACIJU (Podaci se prema Ministerstvu zdravila pohranjuju samo dvije sedmice)
CAMİYE GİRİŞLER KAYIT EDİLECEKTİR (Kişisel kayıtlar 2 hafta süresince muhafaza edilecektir)
يتم الدخول إلى المسجد فقط من خلال التسجيل (سيحتفظ بالمعلومات لمدة أسبوع حسب توجيهات السلطات الصحية)



Garder ses distances: 2m

Obligim i mbajtjes së distancës prej 2m
Obaveza rastojanja 2m
2m mesafe zorunluluğu
وجوب الحفاظ على المسافة الآمنة 2 متر



Ne pas utiliser les toilettes

Nuk lejohet përdorimi i abdesthanave
Abdesthana i mokri čvor ostaju zatvoreni
Abdesthanе ve tuvaletler kullanıma kapalıdır
لا يجوز استخدام الحمامات وأماكن الوضوء



Porter un masque

Obligim i mbajtjes së maskës mbrojtëse
Obaveza nošenja maske
Maske takma zorunluluğu
وجوب وضع كمامه الفم والأنف



Pas de symptômes de maladie

Ndalohet hyrja për personat me simptoma
té sémundjes Covid-19, gripit apo ftohjes
Bez simptoma bolesti
Hastalık belirtisi gösterenler camiye girmemeli
يمتنع دخول الأشخاص الذين يعانون من عوارض مرضية



Apporter son propre tapis

Csecili person duhet të përdorë sexhade personale
Lična prostirka za namaz (sedžada)
Herkes kendi seccadesini yanında getirmeli
يجب على كل فرد إحضار سجاد الصلاة الخاصة به



Admission à partir de 12 ans

Hyrja lejohet vetëm prej moshës 12-vjeçë
Ulag samo za osobe starije od 12 godina
12 yaş altı çocukların camiye girmemeli
لا يسمح بدخول الأطفال تحت سن 12 سنة إلى المسجد



Se désinfecter les mains

Dezinfektim i duarve në hyrje
Dezinficiratı ruke
Girişte eller dezenfekte edilmeli
يجب تعقيم اليدين عند الدخول



Pas de regroupements dans/ devant la mosquée

Ndalohet tubimi i njerezve në grupe para
xhamisë dhe brenda saj
Zabranjeno grupisanje ispred kao i u džamiji
Cami önünde ve içinde grup oluşturmamalı
تنع المجتمعات خارج أو داخل المسجد



Basé sur la décision du Conseil fédéral du 20 mai 2020 et sur le plan-cadre de protection de l'OFSP pour la reprise des cultes et des célébrations religieuses. Les directives et ordonnances respectives de l'OFSP et des autorités cantonales compétentes doivent être respectées.